

Col

Chapter 1

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ
پولس رسول مسیح-کا یسوع ذریعے-سے مرضی-کے اور تیمتھیس وہ
[G3972](#) [G0652](#) [G5547](#) [G2424](#) [G1223](#) [G2307](#) [G2316](#) [G2532](#) [G5095](#) [G3588](#)

ἀδελφός,

بھائی
[G0080](#)

بے-بھی سے طرف کی تیمتھیس بھائی یہ ہی ساتھ ہے۔ رسول کا عیسیٰ مسیح سے مرضی کی اللہ جو بے سے طرف کی پولس خط یہ

2 τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἀγίοις, καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ: χάρις ὑμῖν
ان-کو میں کلسیوں مقدسوں اور وفادار بھائیوں میں مسیح فضل تمہیں
[G3588](#) [G1722](#) [G2857](#) [G0040](#) [G2532](#) [G4103](#) [G0080](#) [G1722](#) [G5547](#) [G5485](#) [G4771](#)

καὶ εἰρήνη, ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν.

اور سلامتی سے خدا باپ ہمارے
[G2532](#) [G1515](#) [G0575](#) [G2316](#) [G3962](#) [G1473](#)

بخشے۔سلامتی اور فضل کو آپ باپ ہمارا خدا ہیں: لائے ایمان پر مسیح جو ہوں ربا لکھ کو بھائیوں مُقدس کے شہر کُلسے میں

3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ Πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντοτε
ہم-شکر-گزاری-کرتے-ہیں اُس خدا باپ-کے اُس خداوند ہمارے یسوع مسیح-کے ہمیشہ
[G2168](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3962](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3842](#)

περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι,

لئے تمہارے دعا-کرتے-ہوئے
[G4012](#) [G4771](#) [G4336](#)

ہیں،کرتے شکر کا باپ کے مسیح عیسیٰ خداوند اپنے خدا وقت ہر تو ہیں کرتے دعا لئے کے آپ ہم جب

4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην ἣν
سن-کر اُس ایمان تمہارے میں مسیح یسوع اور اُس محبت جو
[G0191](#) [G3588](#) [G4102](#) [G4771](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0026](#) [G3739](#)

ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

تم-رکھتے-ہو لئے سب اُن مقدسوں-کے
[G2192](#) [G1519](#) [G3956](#) [G3588](#) [G0040](#)

ہے۔لیا سن میں ہارے کے محبت سے مُقدسین تمام کی آپ اور ایمان پر عیسیٰ مسیح کے آپ نے ہم کیونکہ

5 διὰ τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς; ἣν
لئے اُس امید-کی جو رکھی-ہوئی-ہے تمہارے-لئے میں اُن آسمانوں جو
[G1223](#) [G3588](#) [G1680](#) [G3588](#) [G0606](#) [G4771](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3739](#)

προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας, τοῦ εὐαγγελίου,

تم-نے-پہلے-سنی میں اُس کلام اُس سچائی-کے اُس خوشخبری-کی
[G4257](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G0225](#) [G3588](#) [G2098](#)

اُس امید یہ نے آپ اور ہے۔ گجا رکھا محفوظ لئے کے آپ پر آسمان جو اور ہیں رکھتے امید آپ کی جس ہیں کرتے ظاہر کچھ وہ محبت اور ایمان یہ کا آپ

سنی۔خبری خوش کی اللہ یعنی کلام کا سچائی مرتبہ پہلی نے آپ سے جب بے رکھی سے وقت

6	τοῦ	παρόντος	εἰς	ὑμᾶς,	καθὼς	καὶ	ἐν	παντὶ	τῷ	κόσμῳ,	ἐστὶν
	جو	موجود ہے	تک	تم	جیسا	بھی	میں	ساری	اُس	دنیا	ہے
	G3588	G3918	G1519	G4771	G2531	G2532	G1722	G3956	G3588	G2889	G1510
	καρποφορούμενον	καὶ	αὐξανόμενον,	καθὼς	καὶ	ἐν	ὑμῖν,	ἀφ’	ἧς	ἡμέρας	
	پھل-لاتی-بوئی	اور	بڑھتی-بوئی	جیسا	بھی	میں	تم	سے	جس	دن	
	G2592		G2532	G0837	G2531	G2532	G1722	G4771	G0575	G3739	G2250
	ἠκούσατε	καὶ	ἐπέγνωτε	τὴν	χάριν	τοῦ	Θεοῦ	ἐν	ἀληθείᾳ;		
	تم-نے-سنا	اور	جانا	اُس	فضل	اُس	خدا-کا	میں	سچائی		
	G0191	G2532	G1921	G3588	G5485	G3588	G2316	G1722	G0225		

آپ جب بے ربا کر کام سے دن اُس بھی میں آپ یہ طرح جس طرح اُسی بالکل ہے، ربا بڑھ اور ربا لا پھل میں دنیا پوری گیا پہنچ پاس کے آپ جو پیغام یہ لی۔ سمجھ حقیقت پوری کی فضل کے اللہ کر سن اسے بار پہلی نے

7	καθὼς	ἐμάθετε	ἀπὸ	Ἐπαφρᾶ,	τοῦ	ἀγαπητοῦ	συνδούλου	ἡμῶν,	ὃς	ἐστὶν
	جیسا	تم-نے-سیکھا	سے	ایفراس	اُس	پیارے	ہم-خدمت	ہمارے	جو	ہے
	G2531	G3129	G0575	G1889	G3588	G0027	G4889	G1473	G3739	G1510
	πιστὸς	ὑπὲρ	ὑμῶν,	διάκονος	τοῦ	Χριστοῦ,				
	وفادار	لیے	تمہارے	خادم	کا	مسیح				
	G4103	G5228	G4771	G1249	G3588	G5547				

ہے۔ ربا کر خدمت کی آپ جگہ ہماری خادم وفادار یہ کا مسیح تھی۔ لی یا تعلیم کی خبری خوش اس سے ایفراس خدمت ہم عزیز ہمارے نے آپ

8	ὁ	καὶ	δηλώσας	ἡμῖν	τὴν	ὑμῶν	ἀγάπην	ἐν	Πνεύματι.
	جس-نے	بھی	ظاہر-کیا	ہمیں	اُس	تمہاری	محبت	میں	روح
	G3588	G2532	G1213	G1473	G3588	G4771	G0026	G1722	G4151

ہے۔ دی ڈال میں دلوں کے آپ نے القدس روح جو بتایا میں بارے کے محبت اُس کی آپ ہمیں نے اُسی

9	Διὰ	τοῦτο	καὶ	ἡμεῖς,	ἀφ’	ἧς	ἡμέρας	ἠκούσαμεν,	οὐ	παυόμεθα	ὑπὲρ
	لیے	اس	بھی	ہم	سے	جس	دن	ہم-نے-سنا	نہیں	رکتے	لیے
	G1223	G3778	G2532	G1473	G0575	G3739	G2250	G0191	G3756	G3973	G5228
	ὑμῶν	προσευχόμενοι,	καὶ	αἰτούμενοι	ἵνα	πληρωθῆτε	τὴν	ἐπίγνωσιν	τοῦ		
	تمہارے	دعا-کرتے-بوئے	اور	مانگتے-بوئے	تاکہ	تم-بھر-جاؤ	اُس	معرفت-سے	اُس		
	G4771	G4336	G2532	G0154	G2443	G4137	G3588	G1922	G3588		
	θελήματος	αὐτοῦ,	ἐν	πάσῃ	σοφίᾳ	καὶ	συνέσει	πνευματικῇ,			
	مرضی-کی	اُس-کی	میں	ساری	حکمت	اور	سمجھ	روحانی			
	G2307	G0846	G1722	G3956	G4678	G2532	G4907	G4152			

علم کے مرضی اپنی کر نواز سے سمجھ اور حکمت روحانی ہر کو آپ اللہ کہ ہیں رہتے مانگتے یہ بلکہ آئے نہیں باز سے کرنے دعا لئے کے آپ ہم سے وجہ اس دے۔ بھر سے

10	περιπατήσαι	ἀξίως	τοῦ	Κυρίου,	εἰς	πᾶσαν	ἀρεσκείαν,	ἐν	παντὶ	ἔργῳ
	چلنے-کے-لیے	لائق	اُس	خداوند-کے	لیے	ہر	خوشنودی	میں	ہر	کام
	G4043	G0516	G3588	G2962	G1519	G3956	G0699	G1722	G3956	G2041
	ἀγαθῶ	καρποφοροῦντες,	καὶ	αὐξανόμενοι	τῇ	ἐπιγνώσει	τοῦ	Θεοῦ;		
	نیک	پھل-لاتے-بوئے	اور	بڑھتے-بوئے	اُس	معرفت-میں	اُس	خدا-کی		
	G0018	G2592	G2532	G0837	G3588	G1922	G3588	G2316		

اللہ اور گے لائیں پھل کے کر کام اچھا کا قسم ہر آپ ہاں، گے۔ آئیں پسند اُسے سے طرح ہر اور گے سکیں گزار لائق کے خداوند زندگی اپنی آپ ہی بھر کیونکہ گے۔ کریں ترقی میں عرفان و علم کے

11 ἐν πάσῃ δυνάμει, δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ, εἰς
 میں ساری قدرت تقویت-پاتے-ہوئے مطابق اُس طاقت اُس اُس جلال-کی اُس-کے لیے
[G1722](#) [G3956](#) [G1411](#) [G1412](#) [G2596](#) [G3588](#) [G2904](#) [G3588](#) [G1391](#) [G0846](#) [G1519](#)

πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς;
 ہر صبر اور تحمل ساتھ خوشی-کے
[G3956](#) [G5281](#) [G2532](#) [G3115](#) [G3326](#) [G5479](#)

سے خوشی آپ گے۔ سب سے صبر اور قدمی ثابت وقت ہر کر پا تقویت سے قوت کی قسم ہر والی ملنے سے قدرت جلالی کی اُس آپ اور

12 εὐχαριστοῦντες τῷ Πατρὶ, τῷ ἰκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ
 شکر-گزاری-کرتے-ہوئے اُس باپ-کی جس-نے اہل-بنایا تمہیں لیے اُس حصے-کے اُس
[G2168](#) [G3588](#) [G3962](#) [G3588](#) [G2427](#) [G4771](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3310](#) [G3588](#)

κλήρου τῶν ἁγίων, ἐν τῷ φωτί,
 میراث-کے اُن مقدسوں-کی میں اُس نور
[G2819](#) [G3588](#) [G0040](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5457](#)

ہے۔ حاصل کو مُقدّسین والے رہنے میں روشنی کے اُس جو دیا بنا لائق کے لیے حصہ میں میراث اُس کو آپ نے جس گے کریں شکر کا باپ

13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους, καὶ μετέστησεν εἰς
 جس-نے چھڑایا ہمیں سے اُس اختیار اُس اور اندھیرے-کے اور منتقل-کیا میں
[G3739](#) [G4506](#) [G1473](#) [G1537](#) [G3588](#) [G1849](#) [G3588](#) [G4655](#) [G2532](#) [G3179](#) [G1519](#)

τὴν βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ:
 اُس بادشاہی اُس بیٹے-کی اُس محبت-کے اُس-کی
[G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0026](#) [G0846](#)

لایا، میں بادشاہی کی فرزند پیارے اپنے کر دے رہائی سے اختیار کے تاریکی ہمیں وہی کیونکہ

14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν;
 میں جس میں ہے ہمیں-ملی-ہے وہ فدیہ وہ معافی اُن گناہوں-کی
[G1722](#) [G3739](#) [G2192](#) [G3588](#) [G0629](#) [G3588](#) [G0859](#) [G3588](#) [G0266](#)

دیا۔ کر معاف کو گناہوں ہمارے کر دے فدیہ ہمارا نے جس میں اختیار کے شخص واحد اُس

15 ὃς ἐστὶν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως;
 جو ہے صورت اُس خدا-کی اُس آن-دیکھے پہلوئھا پہلوئھا ساری مخلوق-کا
[G3739](#) [G1510](#) [G1504](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G0517](#) [G4416](#) [G3956](#) [G2937](#)

ہے۔ پہلوئھا کا کائنات اور صورت کی اللہ جو ہیں سکتے دیکھ کو مسیح ہم لیکن سکتا، جا نہیں دیکھا کو اللہ

16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ἐπὶ τῆς
 کیونکہ میں اُس پیدا-کی-گئی اُس وہ سب-چیزیں میں اُن آسمانوں اور اُس
[G3754](#) [G1722](#) [G0846](#) [G2936](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#) [G2532](#) [G1909](#) [G3588](#)

γῆς; τὰ ὀρατὰ, καὶ τὰ ἀόρατα; εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε
 زمین وہ دکھائی-دینے-والی اور وہ آن-دیکھی چاہے تخت چاہے حکومتیں چاہے
[G1093](#) [G3588](#) [G3707](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0517](#) [G1535](#) [G2362](#) [G1535](#) [G2963](#) [G1535](#)

ἄρχαι, εἴτε ἐξουσία: τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται.
 ریاستیں چاہے اختیارات وہ سب-چیزیں ذریعے-سے اُس-کے اور لیے اُس-کے پیدا-کی-گئیں
[G0746](#) [G1535](#) [G1849](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1223](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1519](#) [G0846](#) [G2936](#)

ہوں۔ والے اختیار یا حکمران قوتیں، تخت، شاہی خواہ نہ، یا آئے نظر کو آنکھوں پر، زمین یا ہو پر آسمان خواہ کیا، خلق کچھ سب میں اُسی نے اللہ کیونکہ
 ہوا۔ خلق لئے کے اُسی اور ذریعے کے مسیح کچھ سب

17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν.
 اور وہ ہے پہلے سب-سے اور وہ سب-چیزیں میں اُس قائم-ہیں
[G2532](#) [G0846](#) [G1510](#) [G4253](#) [G3956](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1722](#) [G0846](#) [G4921](#)

- 18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας; ὃς ἐστιν
 اور وہ ہے وہ سر اس بدن-کا اس کلیسیا-کا جو ہے
[G2532](#) [G0846](#) [G1510](#) [G3588](#) [G2776](#) [G3588](#) [G4983](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3739](#) [G1510](#)
- (ἡ) ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτός,
 وہ ابتدا پہلوٹھا سے ان مُردوں تاکہ ہو میں سب-میں وہ
[G3588](#) [G0746](#) [G4416](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3498](#) [G2443](#) [G1096](#) [G1722](#) [G3956](#) [G0846](#)
- πρωτεύων;
 اوّل
[G4409](#)

وہ تاکہ بے بھی پہلوٹھا سے میں اُن وہی لئے اِس اُٹھا جی سے میں مُردوں وہی پہلے چونکہ اور ہے، ابتدا وہی ہے۔ بھی سر کا جماعت اپنی یعنی بدن وہ اور ہو۔ اوّل میں باتوں سب

- 19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι,
 کیونکہ میں اُس پسند-کیا ساری وہ معموری بسنے-کو
[G3754](#) [G1722](#) [G0846](#) [G2106](#) [G3956](#) [G3588](#) [G4138](#) [G2730](#)

کرے سکونت معموری پوری کی اُس میں مسیح کہ آیا پسند کو اللہ کیونکہ

- 20 καὶ δι' αὐτοῦ ἀποκατάλλαξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας
 اور ذریعے-سے اُس کے ملانے-کو وہ سب-چیزیں ساتھ اپنے ہوئے صلح-کراتے-ہوئے
[G2532](#) [G1223](#) [G0846](#) [G0604](#) [G3588](#) [G3956](#) [G1519](#) [G0846](#) [G1517](#)
- διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ -- δι' αὐτοῦ -- εἴτε τὰ ἐπὶ
 ذریعے-سے اُس خون اُس صلیب-کے اُس کے ذریعے اُس کے چاہے وہ پر
[G1223](#) [G3588](#) [G0129](#) [G3588](#) [G4716](#) [G0846](#) [G1223](#) [G0846](#) [G1535](#) [G3588](#) [G1909](#)
- τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
 اُس زمین چاہے وہ میں اُن آسمانوں
[G3588](#) [G1093](#) [G1535](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#)

خون گئے بہائے پر صلیب کے مسیح نے اُس کیونکہ کی۔ آسمان خواہ ہوں کی زمین وہ خواہ لے، کرا صلح ساتھ اپنے کی باتوں سب ذریعے کے مسیح وہ اور کی۔ قائم سلامتی صلح سے وسیلے کے

- 21 καὶ ὑμᾶς, ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῆς διανοίας, ἐν
 اور تمہیں کبھی ہوتے-ہوئے بیگانے اور دشمن اُس ذہن-میں میں
[G2532](#) [G4771](#) [G4218](#) [G1510](#) [G0526](#) [G2532](#) [G2190](#) [G3588](#) [G1271](#) [G1722](#)
- τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς,
 اُن کاموں اُن بُرے
[G3588](#) [G2041](#) [G3588](#) [G4190](#)

تھے۔ کرتے کام بُرے کر رکھ سوچ سی کی دشمن اور تھے اجنبی سامنے کے اللہ پہلے بھی آپ

- 22 νυνὶ δὲ, ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, διὰ τοῦ
 اب لیکن اُس نے-ملا یا میں اُس بدن اُس جسم-کے اُس کے ذریعے-سے اُس
[G3570](#) [G1161](#) [G0604](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4983](#) [G3588](#) [G4561](#) [G0846](#) [G1223](#) [G3588](#)
- θανάτου, παραστήσαι ὑμᾶς ἀγίους, καὶ ἀμώμους, καὶ ἀνεγκλήτους, κατενώπιον
 موت-کی پیش-کرنے-کو تمہیں پاک اور بے-عیب اور بے-الزام اور سامنے
[G2288](#) [G3936](#) [G4771](#) [G0040](#) [G2532](#) [G0299](#) [G2532](#) [G0410](#) [G2714](#)
- αὐτοῦ;
 اُس کے
[G0846](#)

کرے۔ کھڑا حضور اپنے میں حالت بے الزام اور بے داغ مُقدّس، کو آپ وہ تاکہ بے لی کر صلح ساتھ کے آپ سے موت کی بدن انسانی کے مسیح نے اُس اب لیکن

23 εἰ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει, θεμελιωμένοι καὶ ἐδραῖοι, καὶ μὴ
 اگر واقعی تم-فائم-ربو اُس ایمان-پر بنیاد-رکھے-بوئے اور مضبوط اور نہ
[G1487](#) [G1065](#) [G1961](#) [G3588](#) [G4102](#) [G2311](#) [G2532](#) [G1476](#) [G2532](#) [G3361](#)

μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ
 ہٹتے-بوئے سے اُس امید-سے اُس خوشخبری-کی جو تم-نے-سنی اُس
[G3334](#) [G0575](#) [G3588](#) [G1680](#) [G3588](#) [G2098](#) [G3739](#) [G0191](#) [G3588](#)

κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ
 منادی-کی-گئی میں ساری مخلوق اُس نیچے اُس آسمان-کے جس-کا بنا میں
[G2784](#) [G1722](#) [G3956](#) [G2937](#) [G3588](#) [G5259](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3739](#) [G1096](#) [G1473](#)

Παῦλος διάκονος.

پولس خادم
[G3972](#) [G1249](#)

آپ جو جائیں نہ ہٹ سے امید کی خبری خوش اُس اور رہیں کھڑے سے مضبوطی پر بنیاد ٹھوس آپ کہ رہیں، فائم میں ایمان آپ کہ ہے ضروری اب یہ شک ہوں۔ گیا بن پولس میں خادم کا جس اور ہے گئی دی کر سامنے کے مخلوق ہر میں دنیا منادی کی جس ہے پیغام وہی یہ ہے۔ لی سن نے

24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ
 اب خوش-ہوں میں اُن دکھوں-میں لیے تمہارے اور پورا-کرتا-ہوں اُن
[G3568](#) [G5463](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3804](#) [G5228](#) [G4771](#) [G2532](#) [G0466](#) [G3588](#)

ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ, ἐν τῇ σαρκί μου, ὑπὲρ τοῦ
 کمیوں-کو اُن مصیبتوں-کی اُس مسیح-کی میں اُس جسم میرے لیے اُس
[G5303](#) [G3588](#) [G2347](#) [G3588](#) [G5547](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4561](#) [G1473](#) [G5228](#) [G3588](#)

σώματος αὐτοῦ, ὃ ἐστὶν ἡ ἐκκλησία;
 بدن-کے اُس-کے جو ہے وہ کلیسیا
[G4983](#) [G0846](#) [G3739](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1577](#)

کی جماعت کی اُس یعنی بدن کے مسیح میں جسم اپنے میں کیونکہ ہوں۔ رہا اُنہا خاطر کی آپ میں جو ہوں مناتا خوشی باعث کے دکھوں اُن میں اب ہیں۔ گئی رہ تک اب جو ہوں رہا کر پوری کمیاں وہ کی مصیبتوں کی مسیح خاطر

25 ἦς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος, κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ, τὴν
 جس-کا بنا میں خادم مطابق اُس انتظام-کے اُس خدا-کے جو
[G3739](#) [G1096](#) [G1473](#) [G1249](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3622](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#)

δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς, πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ,
 دی-گئی مجھے لیے تمہارے پورا-کرنے-کو اُس کلام اُس خدا-کا
[G1325](#) [G1473](#) [G1519](#) [G4771](#) [G4137](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#)

ہوں، سنا کلام پورا کا اللہ کو آپ میں کہ دی داری ذمہ یہ کر بنا خادم کا جماعت اپنی مجھے نے اللہ ہاں،

26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν
 اُس بھید جو چھپا-ہوا-تھا سے اُن زمانوں اور سے اُن
[G3588](#) [G3466](#) [G3588](#) [G0613](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0165](#) [G2532](#) [G0575](#) [G3588](#)

γενεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ;
 نسلوں اب لیکن ظاہر-کیا-گیا اُن مقدسوں-پر اُس-کے
[G1074](#) [G3568](#) [G1161](#) [G5319](#) [G3588](#) [G0040](#) [G0846](#)

ہے۔ گیا کیا ظاہر پر مقدسین اب لیکن تھا رہا پوشیدہ سے نسلوں گزری تمام سے ازل جو راز وہ

27	οἷς	ἠθέλησεν	ὁ	Θεὸς	γνωρίσαι	τί	τὸ	πλοῦτος	τῆς	δόξης	τοῦ
	جن-کو	چاہا	اُس	خدا-نے	جتانے-کو	کیا	وہ	دولت	اُس	جلال-کی	اُس
	G3739	G2309	G3588	G2316	G1107	G5101	G3588	G4149	G3588	G1391	G3588
	μυστηρίου	τούτου,	ἐν	τοῖς	ἔθνεσιν,	ὅ	ἐστιν	Χριστὸς	ἐν	ὑμῖν,	ἡ
	بہید-کے	اِس	میں	اُن	قوموں	جو	ہے	مسیح	میں	تم	وہ
	G3466	G3778	G1722	G3588	G1484	G3739	G1510	G5547	G1722	G4771	G3588
	ἐλπίς	τῆς	δόξης;								
	امید	اُس	جلال-کی								
	G1680	G3588	G1391								

بے میں آپ وہی ہے۔ میں آپ مسیح کہ یہ کیا؟ بے راز یہ اور ہے۔ جلالی اور قیمت بیش کتنا راز یہ میں غیر یہودیوں کہ لیں جان وہ کہ تھا چاہتا اللہ کیونکہ ہیں۔ رکھتے امید کی ہونے شریک میں جلال کے اللہ ہم باعث کے جس

28	ὄν	ἡμεῖς	καταγγέλλομεν,	νουθετοῦντες	πάντα	ἄνθρωπον,	καὶ	διδάσκοντες	
	جس-کی	ہم	منادی-کرتے-ہیں	نصیحت-کرتے-ہوئے	ہر	انسان-کو	اور	سکھاتے-ہوئے	
	G3739	G1473	G2605	G3560	G3956	G0444	G2532	G1321	
	πάντα	ἄνθρωπον,	ἐν	πάσῃ	σοφίᾳ,	ἵνα	παραστήσωμεν	πάντα	ἄνθρωπον
	ہر	انسان-کو	میں	ساری	حکمت	تاکہ	ہم-پیش-کریں	ہر	انسان-کو
	G3956	G0444	G1722	G3956	G4678	G2443	G3936	G3956	G0444
	τέλειον	ἐν	Χριστῷ.						
	کامل	میں	مسیح						
	G5046	G1722	G5547						

کے اللہ میں حالت کامل میں مسیح کو ایک ہر تاکہ ہیں دیتے تعلیم اور سمجھاتے انہیں ہم سے حکمت ممکنہ ہر ہیں۔ سنانے پیغام کا مسیح کو سب ہم یوں کریں۔ پیش حضور

29	εἰς	ὃ	καὶ	κοπιῶ,	ἀγωνιζόμενος	κατὰ	τὴν	ἐνέργειαν	αὐτοῦ,	τὴν
	لیے	جس-کے	بھی	محنت-کرتا-ہوں	کوشش-کرتے-ہوئے	مطابق	اُس	تائیر-کے	اُس-کی	جو
	G1519	G3739	G2532	G2872	G0075	G2596	G3588	G1753	G0846	G3588
	ἐνεργουμένην	ἐν	ἐμοί,	ἐν	δυνάμει.					
	کام-کرتی-ہے	میں	مجھ	میں	قوت-سے					
	G1754	G1722	G1473	G1722	G1411					

میرے سے زور بڑے جو ہوں لیتا سہارا کا قوت اُس کی مسیح کے کر جہد و جد پوری میں ہاں، ہوں۔ کرتا محنت سخت میں لئے کے کرنے پورا مقصد یہی ہے۔ رہی کر کام اندر